

Copies Distributed
D 3823 Hilly

ORIGINAL 0

IN THE COURT OF COMMON PLEAS
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA

COMMONWEALTH CHARTER
ACADEMY CHARTER
SCHOOL,

Petitioner,

v.

SUSAN SPICKA AND
EDUCATION VOTERS OF PA,

Respondents.

Civil Action No. 2022 CV 7857

2023 MAR -9 PM 1:30
CLERK OF COURT
DAUPHIN COUNTY
PENNSYLVANIA
mm

ORDER

AND NOW, this 7th day of March, 2023, it is hereby ORDERED
that Respondents' Uncontested Motion to Lift Stay is GRANTED. The STAY
issued on October 20, 2022 is LIFTED.

The Court SHALL hold an initial conference on May 3,
2023 at 10:30 A.M., in courtroom 1.

BY THE COURT
John A. Cherry
P.J.

Distribution:

Katherine M. Fitz-Patrick, Esq. and Philip J. Murren, Esq.
Ball, Murren & Connell, LLC
2303 Market Street, Camp Hill, PA 17011
Fitz-patrick@bmc-law.net
Bmc-law2@msn.com
Counsel for Commonwealth Charter Academy

Caroline Ramsey, Esq.
Public Interest Law Center
2 Penn Center, 1500 JFK Blvd., Suite 802, Philadelphia, PA 19102
cramsey@pubintl.org
Counsel for Susan Spicka and Education Voters of PA

Erin Burlew, Esq.
Commonwealth of Pennsylvania, Office of Open Records
333 Market Street, 16th Floor, Harrisburg, PA 17101
eburlew@pa.gov

Dep. Ch. Admin.

Notice of Language Rights



Language Access Coordinator
Dauphin County Court of Common Pleas
101 Market Street, 3rd Floor Court Administrator's Office
Harrisburg, PA 17101
[interpreterrequest@dauphincc.org](http://www.interpreterrequest@dauphincc.org)
(717) 780-6640

English: You have the right to an interpreter at no cost to you. To request an interpreter, please inform court staff using the contact information provided at the top of this notice.

Spanish/Español: Usted tiene derecho a un intérprete libre de costo. Para solicitar un intérprete favor de informárselo al personal judicial utilizando la información provista en la parte superior de este aviso.

Mandarin/Cantonese Simplified Chinese/普通话/粤语简体中文: 您有权获得免费的口译员服务。若需要口译员，请使用本通知上方提供的联系信息通知法院工作人员。

Mandarin/Cantonese Traditional Chinese/普通话/廣東話繁體中文: 您有權要求免費傳譯服務。如欲要求傳譯服務，請參閱本通知頂部的聯絡資料，通知法庭職員。

العربية/Arabic: يحق لك الحصول على مترجم دون دفع أي تكلفة من جانبك. لطلب مترجم، يرجى إعلام موظفي المحكمة باستخدام معلومات الاتصال المقدمة في الجزء العلوي من هذا الإصدار.

Russian/Русский: У вас есть право на бесплатные услуги переводчика. Заявка на переводчика подается в суд по адресу, телефону или эл. почте, указанным выше в заголовке этого уведомления.

Vietnamese/Tiếng Việt: Quý vị có quyền được một thông dịch viên giúp mà không tốn chi phí nào cả, xin hãy báo cho nhân viên tòa án dùng thông tin liên lạc có ở trên đầu thông báo này.

Nepali/नेपाली: तपाईंको निःशुल्क रूपमा भाषा अनुवादक राख्न पाउने अधिकार छ। अनुवादकको लागि अनुरोध गर्न, यस सूचनाको माथि दिइएको सम्पर्क जानकारी भरेर अदालतका कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिनुहोस्।

Korean/한국어: 귀하는 비용에 대한 부담 없이 통역 서비스를 받을 권리가 있습니다. 통역 서비스를 요청하려면 본 통지서의 상단에 기재된 연락처를 통해 법원 직원에게 알려십시오.

Polish/Polski: Ma Pan/Pani prawo do nieodpłatnego skorzystania z usług tłumacza ustnego. Aby zwrócić się o wsparcie ze strony tłumacza ustnego, proszę skontaktować się z pracownikami sądu, korzystając z danych znajdujących się w górnej części niniejszego dokumentu.

Pakistan/پنجابی/Punjabi: تہاڈے کول بغیر ادائیگی کیتیاں اک مترجم حاصل کرن دا حق اے۔ مترجم دی درخواست کرن لئی، میربانی کر کے ایس نوٹس دے اوتے فراہم کیتیاں رابطے دیاں معلومات نوں ورتدیاں عدالت دے عملے نوں اطلاع دوو۔

Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ/India: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

Portuguese/Português: Você tem direito a um intérprete gratuitamente. Para solicitar um intérprete, informe à nossa equipe usando os dados de contato mostrados na parte superior deste aviso.

Somali/Somaali: Waxaad xaq u leedahay in lagu turjumo lacag la'aan ah. Si aad u codsato turjumaanka, fadlan u sheeg maxkamadda shaqaalaha adiga oo isticmaala macluumaadka ciwaanka kor lagu siiyay ee ogeysiiskaan.

Haitian Creole/Kreyòl Avisyen: Ou gen dwa resevwa sèvis yon entèprèt gratis. Pou mande pou yon entèprèt, tanpri fè manm pèsònèl tribinal la konnen lè ou sèvi avèk enfòmasyon an yo te bay ou nan tèt avi sa a.

French/Français: Vous avez le droit de bénéficier gratuitement de l'assistance d'un interprète. Pour en faire la demande, veuillez en informer le personnel du tribunal à l'aide des coordonnées indiquées en haut de page.